



سوال

(616) جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں الحمد للہ ایک مسلمان آدمی ہوں پانچوں نمازیں باقاعدگی سے مسجد میں ادا کرتا ہوں۔ لیکن اکثر و بیشتر نیند کے غلبہ کی وجہ سے صبح کی نماز میں پیچھے رہ جاتا ہوں نیند کے غلبے کی وجہ سے اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میں الارم بھی لگاتا ہوں اس وجہ سے میں بہت پریشان رہتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ نفاق ہی نہ ہو تو کیا مذکورہ صورت حال میں میں منافق تو نہیں؟ آپ اس سلسلے میں مجھے کیا نصیحت فرمائیں گے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

آپ کے لئے واجب یہ ہے کہ مقدور بھر کوشش کیجئے کہ نماز باجماعت ادا کر سکیں اس کے لئے الارم سے فائدہ اٹھائیے جلد سوجلیئے اور اہل خانہ سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ آپ کو بیدار کر دیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کی وجہ سے آپ الارم کی آواز کو سن ہی نہ سکیں ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِّنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۚ ... سورة الطلاق

”اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔“

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ۖ ... سورة التباہن

”سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو۔“

اللہ تعالیٰ آپ کے لئے معاملہ میں آسانی پیدا فرمائے اور فرض ادا کرنے میں آپ کی مدد فرمائے۔ آمین (شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ)

حدا ما عندی واللہ اعلم بالصواب



فتاویٰ اسلامیہ : جلد 1

صفحہ نمبر 498

محدث فتویٰ